

Amazigh Ramdane At Mansour

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ق إِنَّا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Pwadeglent awen tyimmatin nnwen, issit nnwen, tissetmatin nnwen,

tiâamtiwin nnwen, tixaltitin nnwen, issit n ugmat, issit n tweltmap,

tiyimmatin nnwen i kwen issuîven, tissetmatin nnwen ukud teîvem,

tivegwalin nnwen, issit id tessekrem n tlawin nnwen ukud tcerkem usu

- ma ur tecrikem ara usu, ulac u\$ilif -, tilawin n warraw id turwem. Ur

zdukulet snat tsetmatin, kkes ed ayen iâaddan, - Öebbi, s tidep, Izga

Ipsemmiê, Ipêunu -,